



الشُّعْرَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

طَسَمَ -

طَسَمَ (۱)

یہ آیتیں ہیں کتاب روشن کی۔

تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (۲)

شاید کہ تم ہلاکت میں ڈال دو گے اپنے آپکو کہ
نہیں یہ ایمان لاتے۔

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ (۳)

اگر ہم چاہیں تو نازل کر دیں ان پر آسمان سے
ایک نشانی پھر رہ جائیں انکی گردنیں اسکے
آگے جھکی ہوئی۔

إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ
آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا
خَاضِعِينَ (۴)

اور نہیں آتی انکے پاس کوئی نصیحت رحمن کی
طرف سے نئی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرِ مِّنَ الرَّحْمَنِ
إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (۵)

سو یقیناً یہ جھٹلا چکے ہیں تو عنقریب پہنچ جائیں
گی انکو خبریں اس کی جسکی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔

فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَاتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦﴾

اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے زمین کی طرف کتنی
اگائی ہیں ہم نے اسمیں ہر قسم کی نفیس چیزیں۔

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا
فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

بیشک اس میں نشانی ہے۔ اور نہیں ہیں ان
میں سے اکثر ایمان لانے والے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً ط وَ مَا كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

اور یقیناً تیرا رب وہی ہے غالب رحم کرنیوالا۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ تو جا
ان لوگوں کے پاس جو ظالم ہیں۔

وَ إِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ ائْتِ
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾

قوم فرعون کے پاس۔ کیا نہیں وہ ڈرتے۔

قَوْمَ فِرْعَوْنَ ط أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾

کہا اس نے میرے رب یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ
وہ مجھے جھٹلائیں گے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ
يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾

اور گھٹتا ہے میرا سینہ اور نہیں چلتی میری
زبان تو پیغام بھیج ہارون کی طرف۔

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي
فَأَرْسَلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٣﴾

و لَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَآخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾
اور ان کا مجھ پر ہے ایک گناہ سو میں ڈرتا ہوں
کہ وہ مجھ کو قتل کر ڈالیں گے۔

قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾
فرمایا ہرگز نہیں۔ تو جاؤ تم دونوں ہماری نشانیوں
کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔

فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾
سو دونوں جاؤ فرعون کے پاس پھر کہو کہ ہم بھیجے
ہوئے ہیں رب العالمین کے۔

أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾
تاکہ بھیجے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾
وہ بولا کیا نہیں پرورش کیا ہم نے تجھ کو ہم میں بچپن
میں اور رہا تو ہم میں اپنی عمر کے کئی سال۔

وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾
اور تو نے کیا اپنا کام وہ جو تو نے کیا اور تو
ناشکروں میں سے ہے۔

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾
کہا اس نے کیا تھا میں نے وہ جب اور میں تھا
خطا کاروں میں۔

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ
پھر فرار ہو گیا میں تمہارے پاس سے جب مجھے

ڈر لگا تم سے۔ پھر عطا کی مجھے میرے رب
نے حکمت اور بنایا مجھے رسولوں میں سے۔

لِي رَبِّي حَكْمًا وَ جَعَلَنِي مِنَ
الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

اور یہ احسان ہے تو جتنا ہے مجھ پر کہ تو نے
غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو۔

وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ
عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾

کہا فرعون نے اور کیا ہے رب العالمین۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾

کہا اس نے رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو
کچھ ہے ان دونوں کے درمیان۔ اگر ہو تم
یقین لانے والے۔

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾

بولانے جو اسکے ارد گرد تھے کیا نہیں تم سنتے۔

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٢٥﴾

کہا اس نے رب ہے تمہارا اور رب ہے
تمہارے باپ دادوں کا جو پہلے گذر چکے ہیں۔

قَالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمْ
الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾

وہ بولا بیشک یہ تمہارا رسول جو بھیجا گیا ہے
تمہاری طرف یقیناً مجنون ہے۔

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ
إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾

اسنے کہا رب ہے مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ
ان دونوں کے درمیان ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو۔

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا
بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾

وہ بولا اگر تو نے بنایا معبود میرے سوا تو ضرور میں
ڈال دوں گا تجھے قیدیوں کے ساتھ۔

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي
لَأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢١﴾

اسنے کہا اگرچہ میں لاؤل تیرے پاس روشن چیز۔

قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾

وہ بولا لے آ اس کو اگر تو ہے سچ بولنے والوں
میں۔

قَالَ فَآتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿٢٣﴾

پس ڈال دی اس نے اپنی لاٹھی تو اچانک وہ
بن گئی صاف اڑدھا۔

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٢٤﴾

اور اس نے نکالا اپنا ہاتھ تو فوراً وہ ہو گیا سفید
دیکھنے والوں کے لئے۔

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ
لِلنَّظِيرِينَ ﴿٢٥﴾

وہ بولا سرداروں سے اپنے ارد گرد یقیناً یہ تو
ایک جادوگر ہے بڑا ماہر۔

قَالَ لِلْمَلَآءِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ
عَلِيمٌ ﴿٢٦﴾

یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تمکو تمہاری زمین
سے اپنے جادو سے۔ تو کیا مشورہ تم دیتے ہو۔

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ
بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٢٧﴾

انہوں نے کہا مہلت دے اسکو اور اسکے بھائی
کو اور بھیج دے شہروں میں اکھٹا کر نیوالے۔

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي
الْمَدَائِنِ حَشِيرِينَ ﴿٢٨﴾

يَا تُوَكَّلُ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ ﴿٢٧﴾

لے آئیں تیرے پاس تمام جادوگر بڑے ماہر۔

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٨﴾

تو جمع کئے گئے جادوگر وقت مقررہ پر ایک خاص دن۔

وَ قِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٢٩﴾

اور کہدیا گیا لوگوں سے کیا تم سب اکٹھے ہو جاؤ گے۔

لَعَلَّنَا نَتَّبِعَ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ﴿٣٠﴾

تاکہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی اگر ہو جائیں وہ غلبہ پائیوالے۔

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَا لِأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٣١﴾

پھر جب آگئے جادوگر تو کہنے لگے فرعون سے کیا یقیناً ہمارے لئے ہے اجر اگر ہو گئے ہم غلبہ پائیوالے۔

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٣٢﴾

اس نے کہا ہاں اور یقیناً تم اس وقت مقربوں میں ہو جاؤ گے۔

قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٣٣﴾

کہا ان سے موسیٰ نے کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔

تو ڈال دیں انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی
لاٹھیاں اور کہنے لگے فرعون کے اقبال کی قسم
یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔

فَالْقَوْمَ جِبَاهَهُمْ وَ عَصِييَهُمْ وَ قَالُوا
بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ
الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

پھر ڈال دی موسیٰ نے اپنی لاٹھی تو یکایک وہ
نگلنے لگی اسکو جو کچھ انہوں نے جھوٹ بنایا تھا۔

فَالْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ
تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾

تو گر پڑے جادوگر سجدے میں۔

فَالْقَىٰ السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿٤٦﴾

کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾

جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔

رَبِّ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ ﴿٤٨﴾

کہا اس نے ایمان لے آئے تم اس پر اس
سے پہلے کہ میں اجازت دوں تمکو۔ بیشک وہ
تمہارا بڑا ہے وہ کہ جس نے تمکو سکھایا ہے جادو
۔ سو عنقریب تم معلوم کر لو گے۔ یقیناً میں
کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں
مخالف سمت کے اور یقیناً سولی پر چڑھا دوں گا
میں تم سب کو اکٹھا۔

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنٰ لَكُمْ
إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمْ
السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾ لَأَقْطَعَنَّ
أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفِ
وَأَصْلِبَنَّاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٠﴾

انہوں نے کہا نہیں کچھ نقصان۔ بیشک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔

قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾

یقیناً ہم امید رکھتے ہیں کہ معاف فر دے گا ہمارے لئے ہمارا رب ہمارے گناہوں کو۔ اس بنا پر کہ ہم ہو گئے اول ایمان لانے والے۔

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾

اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی طرف کہ نکل پڑو رات میں ہمارے بندوں کے ساتھ۔ یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔

وَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿٥٢﴾

پھر بھیج دیے فرعون نے شہروں میں اکھٹا کر نیوالے۔

فَأَرْسَلْنَا فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾

یقیناً یہ لوگ ہیں ایک جماعت تھوڑی سی۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾

اور بیشک یہ ہیں ہلکے غصہ دلانے والے۔

وَ إِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿٥٥﴾

اور یقیناً ہم ایک جماعت ہیں بہت محتاط۔

وَ إِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ﴿٥٦﴾

تو نکال دیا ہم نے انکو باغوں سے اور چشموں سے۔

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾

اور خزانوں اور نفیس قیام گاہوں سے۔

وَ كُنُوزٍ وَ مَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾

اسی طرح ہوا۔ اور بنا دیا ہم نے وارث ان کا
بنی اسرائیل کو۔

كَذَلِكَ ^ط وَ أَوْثَرْنَا ^ط بَنِي
إِسْرَائِيلَ ﴿٥١﴾

تو انہوں نے تعاقب کیا انکا سورج نکلنے وقت۔

فَاتَّبَعُوهُمْ ^ط مُشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾

پھر جب دیکھا ایک دوسرے کو دونوں جماعتوں نے
بولے موسیٰ کے ساتھی یقیناً ہم پکڑے گئے۔

فَلَمَّا تَرَاءَ الْجُمُعِينَ قَالَ أَصْحَابُ
مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿٦١﴾

اس نے کہا ہرگز نہیں۔ یقیناً میرے ساتھ ہے
میرا رب وہ مجھے راستہ بتائے گا۔

قَالَ ^ط كَلَّا إِنَّ ^ط مَعِيَ ^ط رَبِّي
سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾

تو وحی بھیجی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ مار اپنا
عصا سمندر پر۔ تو پھٹ گیا وہ سو ہو گیا ہر ایک
ٹکڑا گویا کہ پہاڑ ہے بہت بڑا۔

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ ^ط اضْرِبْ
بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ ^ط كُلُّ
فِرْقٍ كَالطُّورِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾

اور قریب لے آئے ہم وہاں دوسروں کو۔

وَ أَرْزَلْنَا ^ط ثُمَّ ^ط الْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾

اور بچا لیا ہم نے موسیٰ اور جو اسکے ساتھ تھے سب کو۔

وَ أَنْجَيْنَا ^ط مُوسَىٰ ^ط وَمَنْ ^ط مَعَهُ ^ط أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾

پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو۔

ثُمَّ ^ط اغْرَقْنَا ^ط الْآخَرِينَ ﴿٦٦﴾

بیشک اس میں نشانی ہے۔ اور نہیں ہوئے

إِنَّ فِي ^ط ذَلِكَ ^ط لآيَةً ^ط وَمَا ^ط كَانَ

أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٧٨﴾

اور بیشک تیرا رب وہی ہے غالب مہربان۔

وَآتَلَّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٧٩﴾

اور پڑھ کر سنا دو انکو واقعہ ابراہیم کا۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٠﴾

جب کہا اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کیا میں یہ جن کو تم پوجتے ہو۔

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَافِيَةً ﴿٨١﴾

وہ کہنے لگے ہم پوجتے ہیں بتوں کو پس بیٹھے رہتے ہیں انکے پاس جمے ہوئے۔

قَالَ هَلْ تَدْعُونَ ﴿٨٢﴾

اس نے کہا کیا یہ سنتے ہیں تمہیں جب تم پکارتے ہو۔

أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٨٣﴾

یا فائدہ دیتے ہیں تمکو یا نقصان پہنچاتے ہیں۔

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٨٤﴾

انہوں نے کہا بلکہ ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے۔

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾

اسنے کہا کیا تم نے دیکھا جنکو تم پوجتے رہے ہو۔

أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ الْأَقْدَامُونَ ﴿٨٦﴾

تم اور تمہارے باپ دادا جو پہلے ہو گزرے۔

تو یقیناً وہ دشمن ہیں میرے سوائے رب
العالمین کے۔

فَأَنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ إِلَّا رَبُّ
الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾

جنے پیدا کیا مجھے سو وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾

اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔

وَ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾

اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔

وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

اور وہ جو مجھے موت دیگا پھر مجھے زندہ کریگا۔

وَ الَّذِي بُمِيتَنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾

اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بخش
دیگا میرے لئے میری خطائیں فیصلے کے دن۔

وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي
خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾

اے میرے رب عطا فرما مجھے حکمت اور
شامل فرما مجھے نیکوکاروں میں۔

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ الْحَقْنَ
بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾

اور باقی رکھ میرا ذکر خیر بعد میں آئیوالے
لوگوں میں۔

وَ اجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي
الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾

اور شامل کر مجھے وارثوں میں جنت نعیم کے۔

وَ اجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾

اور بخش دے میرے باپ کو یقیناً وہ ہو گیا ہے
گمراہوں میں سے۔

وَ اغْفِرْ لِابِيْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ
الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾

اور نہ کر مجھے رسوا جس دن وہ اٹھائے جائیں۔

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٧﴾

جس دن نہ فائدہ دے مال اور نہ بیٹے۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾

سوائے جو آیا اللہ کے پاس لے کر قلب سلیم۔

اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾

اور قریب کر دی جائے گی جنت متقیوں کے۔

وَاُزِلْفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٩٠﴾

اور لائی جائے گی دوزخ گمراہوں کے سامنے۔

وَابْرَزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ﴿٩١﴾

اور کہا جائے گا ان سے کہاں ہیں وہ جنکو تم
پوجتے رہتے تھے۔

وَ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ
تَعْبُدُوْنَ ﴿٩٢﴾

سوائے اللہ کے۔ کیا وہ مدد کر سکتے ہیں تمہاری
یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ
يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٩٣﴾

پھر اوندھے منہ ڈال دیئے جائیں گے اسمیں
وہ خود اور گمراہ بھی۔

فَكَبِكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغٰوِيْنَ ﴿٩٤﴾

اور لشکر شیطان کے سب کے سب۔

وَ جُنُوْدُ اِبْلِیْسَ اَجْمَعُوْنَ ﴿٩٥﴾

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ^{لا} ﴿١٦﴾

کہیں گے جبکہ وہ وہاں آپس میں جھگڑیں گے۔

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ^{لا} ﴿١٧﴾

اللہ کی قسم یقیناً ہم تمھے گمراہی میں کھلی ہوئی۔

اِذْ نُسُوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨﴾

جب برابر ٹھہراتے تھے ہم تمہیں رب العالمین کے۔

وَمَا اَضَلَّنَا اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٩﴾

اور نہیں گمراہ کیا تھا ہم کو مگر ان مجرموں نے۔

فَمَا لَنَا مِنْ شٰفِعِيْنَ ﴿٢٠﴾

تو نہیں ہمارے لئے کوئی سفارش کرنے والے۔

وَلَا صٰدِقِيْنَ حَمِيْمٍ ﴿٢١﴾

اور نہ کوئی دوست غم خوار۔

فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢﴾

تو کاش کہ ہمارے لئے لوٹ جانا ہوتا تو ہو جاتے ہم ایمان لانے والوں میں۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَّ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾

بیشک اس میں نشانی ہے۔ اور نہیں ہیں ان میں اکثر ایمان لانے والے۔

وَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٤﴾

اور یقیناً تیرا رب وہی تو ہے غالب مہربان۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ^{صلے} الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٥﴾

جھٹلایا تھا قوم نوح نے رسولوں کو۔

جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے کہ
کیوں نہیں تم ڈرتے۔

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا
تَتَّقُونَ ﴿١٦﴾

بیشک میں ہوں تمہارا رسول امانت دار۔

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧﴾

تو ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿١٨﴾

اور نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی صلہ۔
نہیں میرا صلہ مگر رب العالمین کے ذمے۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩﴾

تو ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿٢٠﴾

وہ بولے کیا ہم ایمان لائیں تجھ پر جبکہ تیری
پیروی کرتے ہیں رذیل ترین لوگ۔

قَالُوا أَنْتُمْ مِنْ لَدُنْكَ
الْمُرْدَلُونَ ﴿٢١﴾

اس نے کہا اور کیا معلوم ہے مجھے کیا وہ کرتے
ہیں۔

قَالَ وَ مَا عَلِمِي بِهِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

نہیں ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمے
ہے اگر تم سمجھو۔

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ
تَشْعُرُونَ ﴿٢٣﴾

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ^ج ۱۱۴

اور نہیں ہوں میں نکال دینے والا مومنوں کو۔

إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ^ط ۱۱۵

نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا واضح طور پر۔

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَه يَنْوُحْ لَتَكُونَنَّ
مِنَ الْمَرْجُومِينَ^ط ۱۱۶

انہوں نے کہا کہ اگر نہ تم باز آؤ گے اے نوح
تو یقیناً تم ہو گے انہیں جو سنگسار کر دیئے گئے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْلِي كَذَّبُونَ^ص ۱۱۷

اس نے کہا میرے رب بلاشبہ میری قوم نے
مجھے جھٹلا دیا۔

فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي
وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۱۱۸

سو فیصلہ کر دے میرے اور انکے درمیان ایک
کھلا فیصلہ اور نجات دے مجھے اور جو میرے
ساتھ ہیں ایمان والوں میں سے۔

فَأَنْجَيْنَاهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ
الْمَشْكُونِ^ج ۱۱۹

پس نجات دی ہم نے اسکو اور ان کو جو اسکے
ساتھ تھے ایک کشتی میں جو لدی ہوئی تھی۔

ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ^ط ۱۲۰

پھر غرق کر دیا ہم نے اسکے بعد باقی لوگوں کو۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً^ط وَ مَا كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۱۲۱

بیشک اس میں نشانی ہے۔ اور نہیں ہیں ان
میں اکثر ایمان لانے والے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ^ع ﴿١٢٢﴾

اور یقیناً تیرا رب وہی تو ہے غالب مہربان۔

كَذَّبَتْ عَادٌ الْأُمْرُسَلِينَ^ص ﴿١٢٣﴾

جھٹلایا تھا عاد نے رسولوں کو۔

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾

جب کہا ان سے ان کے بھائی ہود نے کہ
کیوں نہیں تم ڈرتے۔

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ^ل ﴿١٢٥﴾

بیشک میں ہوں تمہارا رسول امانت دار۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ^ج ﴿١٢٦﴾

تو ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾

اور نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی صلہ۔
نہیں میرا صلہ مگر رب العالمین کے ذمے۔

اتَّبِنُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ^ل ﴿١٢٨﴾

کیا تم بناتے ہو ہر اونچے مقام پر نشانی فضول۔

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ
تُخْلَدُونَ ﴿١٢٩﴾

اور تعمیر کرتے ہو تم شاندار محل کہ شاید تم ہمیشہ
رہو گے۔

وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ^ج ﴿١٣٠﴾

اور جب تم گرفت کرتے ہو تو پکڑتے ہو جاہرانہ۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ^ج ﴿١٣١﴾

تو ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔

اور ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ دیا ہے تمہیں
جو تم جانتے ہو۔

وَاتَّقُوا الَّذِيَّ أَمَدَّكُمْ بِمَا
تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾

عطا کئے اس نے تمہیں مویشی اور پیٹے۔

أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَيْنِينَ ﴿١٣٣﴾

اور باغات اور چٹمے۔

وَجَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾

یقیناً میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں عذاب
سے بڑے دن کے۔

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾

وہ کہنے لگے یکساں ہے ہمارے لئے خواہ تو
نصیحت کر یا نہ ہو نصیحت کرنیوالوں میں۔

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ
تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾

نہیں یہ تو مگر عادت ہے اگلوں کی۔

إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾

اور نہیں میں ہم عذاب دیے جانیوالوں میں۔

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿١٣٨﴾

تو جھٹلایا انہوں نے اسکو سو ہم نے انکو ہلاک کر
ڈالا۔ بیشک اس میں نشانی ہے۔ اور نہیں
تھے ان میں اکثر ایمان لانے والے۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً ط وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ^ع ﴿١٤٠﴾

اور یقیناً تیرا رب وہی تو ہے غالب مہربان۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ^ص ﴿١٤١﴾

جھٹلایا تھا ثمود نے رسولوں کو۔

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ آلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾

جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح نے کہ
کیوں نہیں تم ڈرتے۔

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ^ل ﴿١٤٣﴾

بیشک میں ہوں تمہارا رسول امانت دار۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ^ج ﴿١٤٤﴾

تو ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾

اور نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی صلہ۔
نہیں میرا صلہ مگر رب العالمین کے ذمے۔

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُنَا أَمِينٌ^ل ﴿١٤٦﴾

کیا چھوڑ دیئے جاؤ گے ان میں جو یہاں ہیں
بے خوف۔

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ^ل ﴿١٤٧﴾

باغوں میں اور چشموں میں۔

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ^ج ﴿١٤٨﴾

اور کھیتیاں اور کھجوریں جنکے خوشے ہیں لطیف۔

وَتَنْجِثُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهَيْنَ ﴿١٤٩﴾

اور تراشے ہو تم پہاڑوں میں گھر بہت خوشی
کے ساتھ۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا^ج ۱۵۰

تو ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ^ل ۱۵۱

اور نہ مانو حکم حد سے بڑھ جانے والوں کا۔

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ^م ۱۵۲

وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور نہیں اصلاح کرتے۔

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ^ج ۱۵۳

وہ کہنے لگے اصل میں تم سحر زدہ لوگوں میں ہو۔

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا^ص فَأْتِ بآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ^م ۱۵۴

نہیں تم مگر ایک بشر ہماری طرح کے۔ تو لے آؤ کوئی نشانی اگر تم ہو سچوں میں سے۔

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ^م ۱۵۵

اس نے کہا یہ ہے اونٹنی اسکی ہے باری پینے کی اور تمہاری باری پینے کی ایک مقرر دن کی۔

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ^م ۱۵۶

اور مت چھونا اسکو برائی سے ورنہ آپکڑے گا تمکو عذاب ایک بڑے دن کا۔

فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ^ل ۱۵۷

تو مار ڈالا انہوں نے اسکو پس ہو گئے وہ نادم۔

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً^ط ۱۵۸

سو آپکڑا انکو عذاب نے۔ بیشک اس میں نشانی

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾

ہے۔ اور نہیں ہیں ان میں اکثر ایمان والے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾

اور یقیناً تیرا رب وہی تو ہے غالب مہربان۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾

جھٹلایا تھا قوم لوط نے رسولوں کو۔

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾

جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط نے کہ
کیوں نہیں تم ڈرتے۔

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾

بیشک میں ہوں تمہارا رسول امانت دار۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿١٦٣﴾

تو ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾

اور نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی صلہ۔
نہیں میرا صلہ مگر رب العالمین کے ذمے۔

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾

کیا تم آتے ہو مردوں پر تمام جہان میں سے۔

وَ تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ
مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

اور چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کیا ہے تمہارے لئے
تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں۔ بلکہ
تم ہو لوگ حد سے نکل جانے والے۔

وہ کہنے لگے اگر نہ باز آئے تم اے لوط تو یقیناً
ہو جاؤ گے تم انہیں جو نکال دیے جاتے ہیں۔

قَالُوا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَه يَلُوطَ لَتَكُونَنَّ
مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾

اسنے کہا یقیناً میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں۔

قَالَ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾

میرے رب نجات دے مجھکو اور میرے گھر
والوں کو اس سے جو یہ کرتے ہیں۔

رَبِّ نَجِّنِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾

سو نجات دی ہمنے اسکو اور اسکے گھر والوں کو
سب کو۔

فَنَجَّيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾

مگر ایک بڑھیا تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں۔

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾

پھر ہلاک کر دیا ہم نے دوسروں کو۔

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧٢﴾

اور برساتی ہم نے ان پر ایک بارش۔ سو بری
تھی بارش انہر جو خبردار کئے گئے تھے۔

وَ أَمَطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَاءً مَّطَرُ
الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٣﴾

بیشک اس میں نشانی ہے۔ اور نہیں تھے ان
میں اکثر ایمان لانے والے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً ۖ وَ مَا كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾

اور یقیناً تیرا رب وہی تو ہے غالب مہربان۔

وَ إِنَّ رَبَّكَ لهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾

كَذَّابٌ أَصْحَابٌ لِّئِيكَةِ
الرُّسُلِينَ^ص

جھٹلایا تھا اصحاب الایکہ نے رسولوں کو۔

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ^ج

جب کہا ان سے شعیب نے کیوں نہیں تم ڈرتے۔

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ^ل

بیشک میں ہوں تمہارا رسول امانت دار۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ^ج

تو ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ^ج

اور نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی صلہ۔
نہیں میرا صلہ مگر رب العالمین کے ذمے۔

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لَا تَكُونُوا مِنَ
الْمُخْسِرِينَ^ج

پوری کیا کرو پیمائش اور نہ ہو نقصان پہنچانے
والوں میں سے۔

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ^ج

اور تولا کرو ترازو سیدھی رکھ کر۔

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^ج

اور نہ کم دیا کرو لوگوں کو انکی چیزیں اور نہ پھرا کرو
زمین میں فسادی ہو کر۔

وَ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الْجِبِلَّةَ

اور ڈرو اس سے جس نے پیدا کیا تمکو اور خلقت کو

ط
الْأَوَّلِينَ ط
۱۸۴

پہلے وقتوں کی۔

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۝
۱۸۵

وہ کہنے لگے اصل میں تم سحرزدہ لوگوں میں ہو۔

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ۝
۱۸۶

اور نہیں ہو تم مگر ایک آدمی ہم جیسے۔ اور یقیناً ہم گمان کرتے ہیں تم کو جھوٹوں میں۔

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۝
۱۸۷
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ۝

سولا گراؤ ہم پر ایک ٹکڑا آسمان سے اگر تم ہو سچ کہنے والوں میں۔

قَالَ رَبِّيَّ اعْلَمُ بِهِمَا تَعْمَلُونَ ۝
۱۸۸

کہا اے میرا رب خوب واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۝
ط
إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمِ عَظِيمٍ ۝
۱۸۹

تو جھٹلایا انہوں نے اس کو پس آپکڑا انکو عذاب نے ساتبان والے دن کے۔ بیشک وہ تھا عذاب بڑے سخت دن کا۔

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً ۝
ط
وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝
۱۹۰

بیشک اس میں نشانی ہے۔ اور نہیں تھے ان میں اکثر ایمان لانے والے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝
۱۹۱

اور یقیناً تیرا رب وہی تو ہے غالب مہربان۔

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ^ط
﴿١١٢﴾

اور یقیناً یہ نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کا۔

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ^{لا}
﴿١١٣﴾

اترا ہے اس کو لے کر فرشتہ امانتدار۔

عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ^{لا}
﴿١١٤﴾

تیرے قلب پر تاکہ تو ہو جائے ڈرانیوالوں میں۔

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ^ط
﴿١١٥﴾

عربی زبان میں فصیح و بلیغ۔

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ^ط
﴿١١٦﴾

اور یقیناً یہ ہے کتابوں میں اگلوں کی۔

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ
عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ^ط
﴿١١٧﴾

اور کیا نہیں ہوئی ان کے لئے یہ دلیل کہ
جانتے ہیں اس بات کو علمائے بنی اسرائیل۔

وَ لَوْ نَزَّلْنَاهُ
عَلَى بَعْضِ
الْأَعْجَمِينَ^{لا}
﴿١١٨﴾

اور اگر ہم نازل کرتے اس کو کسی عجمی پر۔

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
مُؤْمِنِينَ^ط
﴿١١٩﴾

اور وہ پڑھ کر سناتا اسے ان کو تو نہ ہوتے یہ اس
پر ایمان لانے والے۔

كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ
الْمُجْرِمِينَ^ط
﴿١٢٠﴾

اسی طرح داخل کر دیا ہم نے (انکار کو) دلوں
میں مجرموں کے۔

نہیں ایمان لائیں گے وہ اس پر جب تک
دیکھ (نہ) لیں گے عذاب درد دینے والا۔

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ
الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾

پس وہ آواغ ہو گا ان پر ناگہاں اور انہیں خبر
بھی نہ ہوگی۔

فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لَا
يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾

پس وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی۔

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

تو کیا یہ ہمارے عذاب کیلئے جلدی کر رہے ہیں۔

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾

بھلا دیکھو اگر ہم انکو فائدے دیتے رہیں سالوں۔

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾

پھر آواغ ہو انپر جسکا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔

ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾

نہ کام آنے گا انکے جو فائدہ یہ اٹھاتے تھے۔

مَا آغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَنِعُونَ ﴿٢٠٧﴾

اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی مگر اس کے
لئے تھے (پہلے سے) خبردار کرنے والے۔

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا
مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾

یاد دہانی کے لئے۔ اور نہیں ہیں ہم ظالم۔

ذِكْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾

اور نہیں لیکر نازل ہوئے اس کو شیاطین۔

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ﴿٢١٠﴾

اور نہ یہ لائق ہے انکے اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں۔

وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾

بلاشبہ وہ اسکے سننے سے معزول ہو چکے ہیں۔

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ ﴿٢١٢﴾

تو مت پکارنا اللہ کے ساتھ معبود کوئی اور ورنہ ہو جاؤ گے تم عذاب پانیوالوں میں۔

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾

اور ڈرنا دو اپنے رشتہ داروں کو قریب کے۔

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾

اور جھکاؤ اپنے بازو انکے لئے جو اتباع کریں تمہاری ایمان لانے والوں میں سے۔

وَإِخْفِضْ جُنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

پھر اگر یہ نافرمانی کریں تمہاری تو کھدو یقیناً میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾

اور بھروسہ رکھو اسپر جو غالب ہے مہربان ہے۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾

جو دیکھتا ہے تمکو جب تم کھڑے ہوتے ہو۔

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾

اور تمہارا پھرنا سجدہ کرنیوالوں میں۔

وَتَقَلُّبَكَ فِي السُّجُودِ إِنَّ

بیشک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢١٩﴾

کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کس پر اترتے ہیں
شیاطین۔

هَلْ أَنْبَيْكُمْ عَلَى مَنْ تَنْزَلُ
الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾

اترتے ہیں وہ ہر اس پر جو جھوٹا گنہگار ہے۔

تَنْزَلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾

لا ڈالتے ہیں سنی ہوئی اور ان میں سے اکثر
جھوٹے ہیں۔

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرَهُمْ
كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾

اور شاعر تو پیروی کیا کرتے ہیں انکی گمراہ لوگ۔

وَ الشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾

کیا نہیں دیکھا تم نے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے
پھرتے ہیں۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَّهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾

اور بلاشبہ کہتے ہیں وہ جو نہیں کرتے۔

وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾

مگر جو لوگ ایمان لائے اور کچے نیک کام اور یاد
کرتے رہے اللہ کو کثرت سے اور انتقام بھی لیا
انہوں نے اسکے بعد جو ظلم انپر کیا گیا۔ اور
عنقریب جان لیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا کہ
کون سی لوٹنے کی جگہ وہ لوٹ کر جاتے ہیں۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَ ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَ انْتَصَرُوا
مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَ سَيَعْلَمُ
الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ
يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

